



دوست کیساتھ انگلش بولیں

Dude, give me some good advice

یار کوئی اچھا سا مشورہ تو دیں۔

Just don't get what to do.

سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔

Buddy, try to understand my situation.

یار، میری حالت سمجھنے کی کوشش کرو۔

Just don't talk about him.

اس کی تو بات ہی مت کرو۔

It will be your loss.

آپ کا ہی نقصان ہوگا۔

My friend is very supportive.

میرا دوست بہت معاون ہے۔

Are you satisfied with that?

کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟

Dude, you do it on my behalf.

یار، میری طرف سے آپ کر دیں۔

Asim is my bona fide friend.

عاصم میرا پکا دوست ہے۔

Their friendship is matchless.

انکی دوستی بے مثال ہے۔

What's new?

کوئی نئی تازی؟

He is a trustworthy friend.

وہ ایک قابل بھروسہ دوست ہے۔

You seem a bit tired.

آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں۔

Asim is my social friend.

عاصم میرا سوشل دوست ہے۔

He is just my cyber friend.

وہ صرف میرا سائبر دوست ہے۔

My friend is very sincere.

میرا دوست بہت مخلص ہے۔

A friend in need is a friend indeed

دوست دوست کے کام آتا ہے۔

I have no any friend.

میرا کوئی دوست نہیں ہے۔

I'm just getting on with her.

میں بس گزارا کر رہا ہوں۔

Don't befriend the deceiver.

دھوکے باز کو دوست مت بناؤ۔

Dude, I'm in real distress.

یار، میں بہت پریشانی میں ہوں۔



دوست کیساتھ انگلش بولیں

Both are not on good terms.

وہ دونوں آپس میں بات نہیں کرتے۔

Avoid friends with benefits.

فائدہ لینے والے دوستوں سے پرہیز کریں۔

Please, say something.

براہ مہربانی، کچھ تو بولیں۔

Why are you so quiet today?

آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟

Childhood memories are beautiful.

بچپن کی یادیں خوبصورت ہوتی ہیں

What do you like here?

آپ کو یہاں کیا پسند ہے؟

Don't say anything bad about him.

اس کے بارے میں کچھ برا مت کہو۔

I'm not comfortable with it.

مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔

You now what?

اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟

Who is your best friend?

آپ کا بہترین دوست کون ہے؟

He is my lifelong friend.

وہ میرا زندگی بھر کا دوست ہے۔

We friends are like brothers.

ہم دوست بھائیوں کی طرح ہیں۔

I spend time with my buddy.

میں اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔

My friend is very humorous.

میرا دوست بہت مزاحیہ ہے۔

My friend is reticent person.

میرا دوست خاموش طبع انسان ہے۔

Anything for you.

جان بھی حاضر ہے۔

Help your friend.

اپنے دوست کی مدد کریں۔



دوست کیساتھ انگلش بولیں

I'll manage it for my friend.

میں اپنی دوست کے لیے انتظام کر دوں گا۔

Avoid greedy friends.

لاالچی دوستوں سے بچیں۔

I like my friend's company.

مجھے اپنے دوست کی صحبت پسند ہے۔

A friend must help other's friend.

ایک دوست کو دوسرے دوست کی مدد کرنی چاہیے۔

Your future depends on it.

اس پر تمہارے مستقبل کا انحصار ہے۔

A bit tired.

تھوڑا سا تھکا ہوا!

Things are great.

سب ٹھیک ہے۔

Are you still working there?

کیا ابھی بھی ادھر کام کر رہے ہیں؟

How are the folks?

سب لوگ کیسے ہیں؟

Your insistence is beyond my understanding.

تمہاری ضد میری سمجھ سے باہر ہے۔

You're kidding.

مذاق کر رہے ہو!

I can't believe that.

مجھے یقین نہیں آتا۔

Let's go out tonight.

آج رات باہر چلتے ہیں۔

How are things at your end?

آپکی طرف حالات کیسے ہیں؟

Let's leave this topic now.

اب اس بات کو چھوڑتے ہیں۔

Friendship is a precious gift.

دوستی ایک انمول تحفہ ہے۔

I'm worried about my friend.

میں اپنے دوست کے بارے میں پریشان ہوں